

# دُعائے نور

سید ابن طاووس علیہ الرحمہ نے سلمان فارسی رضوان اللہ علیہ سے روایت کی ہے کہ حضرت  
فاطمہ زہرا نے مجھ کو رطب عطا فرمایا جس میں گھٹلی نہ تھی اور فرمایا یہ اس درخت کا پھل ہے، جو  
خداوند عالم نے میرے لیے بہشت میں لگایا ہے اُن چند کلمات کے سبب جو میرے پدے  
بزرگوار نے مجھے تعلیم فرمائے اور جنہیں میں ہر صبح و شام پڑھتی ہوں۔ اگر چاہتے ہو کہ جب  
تک زندہ رہو تب میں ہرگز مبتلا نہ ہو تو یہ دُعا پڑھا کرو۔ سلمان کہتے ہیں کہ میں نے  
اہل مکہ و مدینہ سے ہزار نفر کو یہ دُعا تعلیم کی۔ ان سب کو خدا تعالیٰ نے شفا دی۔  
(اس دُعا کو صاحب تپ خود پڑھے مفید و مجرب ہے)

# بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بہت ہی مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔

اللَّهُمَّ يَا نُورَ النُّورِ تَنَوَّرْتُ بِالنُّورِ وَالنُّورُ

اے اللہ اے روشن کرنے والے نور کے تو روشن ہوا اپنے نور کے ساتھ اور

فِي نُورِ نورك يَا نُورَ اللَّهُمَّ يَا عَزِيزُ

سب روشنی تیرے نور کی روشنی میں ہے اے نور اے اللہ اے صاحب عزت کے

تَعَزُّزَاتٍ يَا لِعِزَّةِ وَالْعِزَّةِ فِي عِزَّةِ

تو معزز ہوا اپنی عزت کے ساتھ اور سب عزت تیری عزت کے غلبہ

عِزَّتِكَ يَا عَزِيزُ اللَّهُمَّ يَا حَلِيلُ تَجَلَّلْتُ

میں ہے اے عزیز اے اللہ اے بزرگ تو بزرگ ہوا

بِالْجَلَالِ وَالْجَلَالُ فِي جَلَالِكَ

اپنے جلال کے ساتھ اور جلال تیری بزرگی کے جلال میں ہے

يَا حَلِيلُ اللَّهُمَّ يَا وَهَّابٌ تَوَهَّيْتُ بِالْهَيْبَةِ

اے حلیل اے اللہ اے بخشنے والے تو نے بخشا اپنی بخشش کے ساتھ

وَالْهَيْبَةُ فِي هَيْبَتِكَ يَا وَهَّابُ اللَّهُمَّ

اور سب بخشش تیری بخشش کی عطا میں ہے اے وہاب اے اللہ

يَاعَظِيمُ تَعْظَمْتُ بِالْعَظَمَةِ وَالْعَظَمَةُ

اے صاحب عظمت کہ تو بزرگ ہوا اپنی عظمت کے ساتھ اور سب بزرگی

فِي عَظْمَةٍ عَظِيمَةٍ يَا عَظِيمُ اللَّهُمَّ يَا

تیری بزرگی کی بڑائی میں ہے اے عظیم اے اللہ اے

عَلَيْمُ تَعَلَّمْتَ بِالْعِلْمِ وَالْعِلْمُ فِي عِلْمِ

جاننے والے تو نے جانا اپنے علم کے ساتھ اور سب علم تیرے علم کی

عِلْمِكَ يَا عَلِيمُ اللَّهُمَّ يَا قُدُّوسَ الْقُدُّوسِ

داشت میں ہے اے عظیم اے اللہ اے پاک ذات تو پاک ہو اپنی

بِالْقُدُّوسِ وَالْقُدُّوسُ فِي قُدُّوسِ قُدُّوسِكَ

پاکیزگی کے ساتھ اور سب بزرگی تیرے قدس کی پاکیزگی میں ہے

يَا قُدُّوسَ اللَّهُمَّ يَا حَبِيبَ الْجَمِيلِ

اے قدوس اے اللہ اے صاحب جمال کہ تو اپنے جمال کے ساتھ

بِالْجَمِيلِ وَالْجَمِيلُ فِي جَمَالِ جَمَالِكَ

جمیل ہو اور سب جمال تیرے جمال کے جمال میں ہے

يَا حَبِيبَ اللَّهُمَّ يَا سَلَامَ السَّلَامِ

اے جمیل اے اللہ اے سلامت سب عیبوں سے تو اپنی سلامتی ذاتی کے ساتھ

وَالسَّلَامُ فِي سَلَامِكَ يَا سَلَامَ

اور سب سلامتی تیری صفت سلامت کے سلامت میں ہے اے سلام

اللَّهُمَّ يَا صَبُورَ الصَّبْرِ وَالصَّبْرُ

اے اللہ اے صبور تو اپنی صفت صبر کے ساتھ صبور ہو اور سب کا صبر

فِي صَبْرٍ صَبْرِكَ يَا صَبُورُ اللَّهُمَّ يَا مَلِيكَ

تیرے صبر کی صبریت میں ہے اے صبور اے اللہ اے بادشاہ

تَمَلَّكَتْ بِالْمَلَكُوتِ وَالْمَلَكُوتُ فِي

تو اپنی ملکوت کے ساتھ بادشاہ ہے اور سب بادشاہتیں تیری بادشاہت

مَلَكُوتِ مَلَكُوتِكَ يَا مَلِيكَ اللَّهُمَّ يَا

کے ملکوت میں ہیں اے بادشاہ اے اللہ اے

رَبُّكَ تَرَبُّبَتِ بِالرَّبُوبِيَّةِ وَالرَّبُوبِيَّةُ فِي

پروردگار تو اپنی صفت ربوبیت کے ساتھ رب ہے اور سب کی پرورش تیری

رَبُوبِيَّةِ رَبُّوبِيَّتِكَ يَا رَبُّ اللَّهُمَّ يَا مَنَّانُ

صفت ربوبیت کی پرورش میں ہے اے رب اے اللہ اے احسان کرنے والے

تَمَنَّيْتُ بِالْمَنَّةِ وَالْمَنَّةُ فِي مَنَّةِ مَنَّتِكَ

تو اپنی منانیت کے احسان کرنے والا ہے اور سب احسان تیری صفت منانیت کی داد میں

يَا مَنَّانُ اللَّهُمَّ يَا حَكِيمُ تَحَكَّمْتَ بِالْحِكْمَةِ

میں اے احسان کرنے والے اللہ اے صاحب حکمت تو استوار ہے اپنی حکمت سے

وَالْحِكْمَةُ فِي حِكْمَتِكَ يَا حَكِيمُ

اور سب حکمت تیری حکمت کی استوار کاری میں ہے اے حکیم

اللَّهُمَّ يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ يَا صَدِّقُ يَا حَسْبُ

اے اللہ اے تعریف کے گئے تو سراہا ہوا ہے اپنی خوبی کے ساتھ اور سب

فِي حُصْبِكَ يَا حَمِيدُ اللَّهُمَّ يَا

تعریف تیری حمد کی تعریف میں اے حمید اے اللہ اے

وَاحِدٌ تُوْحَّدَاتُكَ بِالْوَحْدَانِيَّةِ وَالْوَحْدَانِيَّةُ

ہیگانے تو ہیگانہ ہے اپنی وحدانیت کے ساتھ اور وحدانیت تیری ہی

فِي وَحْدَانِيَّةٍ وَحْدَانِيَّتِكَ يَا وَاحِدُ اللَّهُمَّ

وحدانیت کی ہیگانگت میں ہے اے ہیگانے اے اللہ

يَا فَرْدٌ تَفَرَّدْتَ بِالْفَرْدَانِيَّةِ وَالْفَرْدَانِيَّةُ

اے یکتا تو یکتا ہے اپنی یکتائی سے اور سب یکتائی تیری

فِي فَرْدَانِيَّةٍ فَرْدَانِيَّتِكَ يَا فَرْدُ اللَّهُمَّ

ہی یکتائی کی یکتائی میں ہے اے یکتا اے اللہ

يَا حَلِيمٌ تَحَلَّيْتُ بِالْحِلْمِ وَالْحِلْمُ فِي

اے بردبار تو حلیم ہے اپنی صفت حلم کے ساتھ اور سب بردباری

حِلْمِكَ يَا حَلِيمُ اللَّهُمَّ يَا قَدِيرٌ

تیرے حلم کی بردباری میں ہے اے حلیم اے اللہ اے قدرت والے

تَقْدَارُكَ بِالْقُدْرَةِ وَالْقُدْرَةُ فِي قُدْرَةِ

تو قادر ہے اپنی قدرت سے اور سب قدرت تیری قدرت کے قبضہ

قُدْرَتِكَ يَا قَدِيرُ اللَّهُمَّ يَا قَدِيمٌ

میں ہے اے قدیر اے اللہ اے سب سے پہلے تو قدیم ہے اپنے

يَا قَدَامُ وَالْقَدَامُ فِي رُقْدٍ مَرِ قَدَامِكَ يَا

قدم سے اور سب قدامت تیرے قدم کی قدامت میں ہے اے

قَدِيمُ اللَّهُمَّ يَا شَاهِدًا تَشْهَدُكَ بِالشُّهَادَةِ

سب سے پہلے اے اللہ اے گواہ تو گواہ ہے اپنی صفت شہادت سے اور

وَالشُّهَادَةُ فِي شُهَادَتِكَ يَا شَاهِدًا

سب گواہی تیری شہادت کی شہادت میں ہے اے شاہد

اللَّهُمَّ يَا قَرِيبُ تَقَرَّبْتُ بِالْقُرْبِ وَالْقُرْبُ

اے اللہ اے نزدیک تو نزدیک ہے سب سے اپنی صفت قرب کے ساتھ

فِي قُرْبِكَ يَا قَرِيبُ اللَّهُمَّ يَا نَصِيرُ

اور سب نزدیکی تیرے قرب کی نزدیکی میں ہے اے قریب اے اللہ اے مددگار

تَنصَّرْتُ بِالنُّصْرَةِ وَالنُّصْرَةُ فِي نَصْرَةِ

تو مددگار ہے اپنی صفت نصرت کے ساتھ اور سب مدد تیری نصرت کی نصرت

نَصْرَتِكَ يَا نَصِيرُ اللَّهُمَّ يَا سِتْرًا تَسْتَرُنِي

میں ہے اے نصیر اے اللہ اے پردہ پوش تو نے پردہ پوشی کی

بِالسُّتْرِ وَالسُّتْرُ فِي سِتْرِكَ يَا سِتْرًا

اپنی صفت ستاری سے اور پردہ پوشی تیری صفت ستاری کی پردہ پوشی میں ہے

اللَّهُمَّ يَا فَهْرًا تَفْهَرُ بِالْقَهْرِ وَالْقَهْرُ

اے ستار اے اللہ اے دباؤ والے تو تھارت ہے اپنی صفت قہر کے ساتھ اور سب دباؤ

بِنِي قَهْرٍ قَهْرِكَ يَا قَهَّارُ اللَّهُمَّ يَا رِزَّاقُ

تیرے قہر کے دباؤ میں ہیں اے قہار اے اللہ اے روزی رساں

تُرَزِّقْتَنِي بِالرِّزْقِ وَالرِّزْقُ فِي رِزْقِي

تو روزی پہنچاتا ہے اپنے رزق سے اور سب روزی تیرے رزق کے طفیل

رِزْقِكَ يَا رِزَّاقُ اللَّهُمَّ يَا خَلَّاقُ تَخَلَّقْتَنِي

ہے اے رزاق اے اللہ اے پیدا کرنے والے تو نے پیدا کیا

بِالْخَلْقِ وَالْخَلْقُ فِي خَلْقِكَ يَا

اپنی صفت خلق کے ساتھ اور سب خلق تیری خالقیت کی بیدائش میں ہے اے

خَلَّاقُ اللَّهُمَّ يَا فَتَّاحُ تَفَتَّحْتَ بِالْفَتْحِ

خلق اے اللہ اے فتاح تو نے کھولا اپنی فتوح کے ساتھ

وَالْفَتْحُ فِي فَتْحِكَ يَا فَتَّاحُ اللَّهُمَّ

اور سب کشائش تیری فتح کی کشائش میں ہے اے فتاح اے اللہ

يَا رَفِيعُ رَفَعْتَ بِالرَّفْعَةِ وَالرَّفْعَةُ فِي

اے بلند تو نے بلند کیا اپنی رفعت کے ساتھ اور سب بلندی تیری رفعت کی

رَفْعَتِكَ يَا رَفِيعُ اللَّهُمَّ يَا حَفِيفُ

بلندی میں ہے اے رفیع اے اللہ اے نگہبان

تَحَفَّفْتُ بِالْحَفِيفِ وَالْحَفِيفُ فِي حِفْظِي

تو نے نگہبانی کی اپنی صفت حفاظت کے ساتھ اور سب نگہبانی تیری صفت حفظ کی

حَفِظَكَ يَا حَفِيفُ اللَّهُمَّ يَا مُفْضِلُ

نگہبانی میں ہے اے حفیظ اے اللہ اے صاحب فضل

تَفَضَّلْتَ بِالْفَضْلِ وَالْفَضْلُ فِي فَضْلِ

تو نے فضل کیا اپنی صفت فضل کے ساتھ اور سب بزرگی تیرے فضل کی بزرگی

فَضْلِكَ يَا مُفْضِلُ اللَّهُمَّ يَا وَاصِلُ

میں ہے اے بزرگی والے اے اللہ اے ملانے والے

تَوَصَّلْتَ يَا وَاصِلُ وَالْوَصْلُ فِي وَصْلِ

تو نے ملا یا سب کو ملاپ کے ساتھ اور سب ملاپ تیرے وصل کے طلب

وَصْلِكَ يَا وَاصِلُ اللَّهُمَّ يَا لَطِيفُ

میں ہے اے ملانے والے اے اللہ اے لطیف

تَلَطَّفْتَ بِاللُّطْفِ وَاللُّطْفُ فِي لُطْفِ

تو نے لطف دیا اپنے لطف کے ساتھ اور سب لطف تیری باریک بینی کے

لُطْفِكَ يَا لَطِيفُ اللَّهُمَّ يَا قَابِضُ قَبِضْتَ

لطف میں ہے اے لطیف اے اللہ اے قابض تو نے قبض کیا

بِالْقَبْضِ وَالْقَبْضُ فِي قَبْضِكَ

قبض کے ساتھ اور سب قبض تیرے قبض کے قبضے میں ہے

يَا قَابِضُ اللَّهُمَّ يَا عَفَّارُ عَفَّرْتَ بِالْمَغْفِرَةِ

اے قابض اے اللہ اے بخشنے والے تو نے بخش دیا اپنی بخشش کے ساتھ

وَالْمَغْفِرَةَ فِي مَغْفِرَتِكَ يَا غَفَّارٌ

اور سب مغفرت تیری مغفرت کی بخشش میں ہے اے غفار

اللَّهُمَّ يَا جَبَّارُ جَبْرُوتَ وَالْجَبْرُوتِ

اے اللہ اے ٹوٹے ہوئے کے جوڑنے والے تو نے خسہ کو جوڑ دیا اپنی صفت جبروت کیساتھ

فِي جَبْرُوتِ جَبْرُوتِكَ يَا جَبَّارُ اللَّهُمَّ

اور سب جبروت تیری صفت جبروت میں ہے اے جبار اے اللہ

يَا سَمِيعُ سَمِعْتَ بِالسَّمِيعِ وَالسَّمْعُ فِي

اے سنے والے تو نے سنا اپنی صفت سمع سے اور سب سنا تیری صفت

سَمِعِ سَمِعِكَ يَا سَمِيعُ اللَّهُمَّ يَا كَبِيرُ

سمع کی بدولت ہے اے سمیع اے اللہ اے سب سے بڑے

تَكَبَّرْتَ يَا كَبِيرِيَاءَ وَالْكَبْرِيَاءُ فِي كِبْرِيَاءِ

تو بڑا ہوا اپنی صفت کبریائی سے اور سب کبریائی تیری صفت کبریائی

كَبِيرِيَاءِكَ يَا كَبِيرُ اللَّهُمَّ يَا كَرِيمٌ تَكَرَّمْتَ

میں ہے اے کبیر اے اللہ اے کرم کرنے والے تو بزرگ ہوا

بِالْكَرَمِ وَالْكَرَمُ فِي كَرَمِكَ يَا كَرِيمُ

اپنی ذاتی بزرگی سے اور سب بزرگی تیری صفت کرم میں ہے اے کریم

اللَّهُمَّ يَا رَحِيمٌ تَرَحَّمْتَ بِالرَّحْمِ وَالرَّحْمُ

اے اللہ اے رحم کرنے والے تو نے رحم کیا اپنے رحم کے ساتھ اور سب

فِي رَحْمِ رَحْمِكَ يَا رَحِيمُ اللَّهُمَّ يَا مَجِيدُ

مہربانیاں تیری صفت رحم کی بدولت ہیں اے رحیم اے اللہ اے بڑی شان والے

تَسْبِحَاتٌ يَا لَمَجْدِ وَالْبَجْدِ فِي مَجْدِ

تو بزرگ ہوا اپنے مجد سے اور سب شان تیری صفت مجد میں ہے

مَجْدِكَ يَا مَجِيدُ يَا مُجِيبُ يَا اللَّهُ يَا

اے مجید اے قبول کرنے والے دعاؤں کے اے اللہ اے

رَحْمَنُ يَا رَحِيمُ يَا حَيُّ يَا حَلِيمُ يَا عَزِيزُ

رحمن اے رحیم اے زندہ اے بڑو باد اے غالب

يَا نُورَ النُّورِ يَا لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ

اے روشن کرنے والے نور کے اے وہ ذات جس کے سوا کسی کی بندگی لائق نہیں ہے میں نے ہی پر

وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ الْحَمْدُ لِلَّهِ

بھروسہ کیا اور وہ پروردگار ہے عرش بڑے کا سب تعریف واسطے اللہ کے

الْوَهَّابِ سُبْحَانَ الْمَجِيدِ سُبْحَانَ الصَّوْمِرِ

جو بخشنے والا ہے پاک ہے بڑی شان والا پاک ہے بڑی برداشت والا

سُبْحَانَ الْبَصِيرِ سُبْحَانَ الْمَالِكِ سُبْحَانَ

پاک ہے سب کچھ دیکھنے والا پاک ہے روکنے والا پاک ہے

الْقَيُّومِ سُبْحَانَ الْبَرِّ سُبْحَانَ الْمُعَافِي

سب کو قائم رکھنے والا پاک ہے بھلائی کرنے والا پاک ہے عافیت دینے والا

سُبْحَانَ الْأَوَّلِ سُبْحَانَ الْبَعْرِ سُبْحَانَ

پاک ہے سب سے پہلا پاک ہے عزت دینے والا پاک ہے

الظَّاهِرِ سُبْحَانَ الشَّامِي سُبْحَانَ الْكَافِي

ظاہر پاک ہے شفا دینے والا پاک ہے کفایت کرنے والا

سُبْحَانَ السَّلَامِ سُبْحَانَ الْمُؤْمِنِ

پاک ہے سب عیبوں سے سلامت پاک ہے سب کو امن دینے والا

سُبْحَانَ الْمُهَيِّئِ سُبْحَانَ الْبُصُورِ

پاک ہے سب کا نگہبان پاک ہے صورت بنانے والا

سُبْحَانَ النَّاصِرِ سُبْحَانَ الْوَاحِدِ سُبْحَانَ

پاک ہے مددگار پاک ہے اکبر پاک ہے

الْأَحَدِ سُبْحَانَ الْفَرْدِ سُبْحَانَ الرَّحِيمِ

یرگانه پاک ہے یکتا پاک ہے رحم کرنے والا

سُبْحَانَ الْبُورِ سُبْحَانَ الْمَقْدِمِ

پاک ہے پیچھے کرنے والا پاک ہے آگے کرنے والا

سُبْحَانَ الضَّارِّ سُبْحَانَ النُّورِ سُبْحَانَ

پاک ہے نقصان پہنچانے والا پاک ہے نور پاک ہے

الْهَادِي سُبْحَانَ الْمَقْدِرِ سُبْحَانَ

ہدایت کرنے والا پاک ہے تقدیر کرنے والا پاک ہے

الْجَلِيلِ سُبْحَانَ الْمَجِيدِ سُبْحَانَ

صاحب جلال پاک ہے بڑی شان والا پاک ہے

الرَّقِيبِ سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَ

نگہبان پاک ہے اللہ اور سب تعریف واسطے اللہ کعبہ

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ وَلَا حَوْلَ وَلَا

اور نہیں کوئی لائق عبادت مگر اللہ اور اللہ سب سے بڑا ہے اور نہیں پھر نابدی سے اور نہ

قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ سُبْحَانَ

طاقت بھلائی کی مگر ساتھ اللہ کے جو برتر اور بزرگ ہے پاک ہے

مَنْ يَشَاءُ يُقَدِّرْهُ وَيَعْلَمُ مَا يَرِيدُ بِعِزَّتِهِ

وہ ذات جو چاہتا ہے ساتھ قدرت اپنی کے اور جانتا ہے جو ارادہ کرتا ہے اپنی عزت کے

سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ سُبْحَانَ ذِي

ساتھ پاک ہے اللہ اور اپنی تعریف کے ساتھ موصوفے پاک ہے حسب

الْعَرْشِ الْعَظِيمِ وَالْهَيْبَةِ وَالْقُدْرَةِ وَ

عرش بڑے کا اور صاحب ہیبت اور قدرت کا اور

الْكِبْرِيَاءِ وَالْجَبْرُوتِ سُبْحَانَ الْمَلِكِ

صاحب بڑائی کا اور جبروت کا پاک ہے بادشاہ

الْمُقْصُودِ سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْمَوْجُودِ

قصد کیا ہوا پاک ہے بادشاہ موجود

سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْعَبُودِ سُبْحَانَ الْحَيِّ

پاک ہے بادشاہ معبود پاک ہے زندہ

الْحَكِيمِ سُبْحَانَ اللَّهِ تَوَكَّلْتُ عَلَى الْحَيِّ

حکمت والا پاک ہے اللہ میں نے بھروسہ کیا اس زندہ پر

الَّذِي لَا يَمُوتُ سُبُّوحٌ قُدُّوسٌ رَبُّ

جو کبھی نہیں مرتا بہت پاک ہے پاک ذات ہے رب ہے

الْمَلَائِكَةِ وَالرُّوحِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ

فرشتوں کا اور روح کا نہیں کوئی لائق پرستش کے مگر اللہ ایک ہے

لَا شَرِيكَ لَهُ وَلَهُ الْمُلْكُ وَالْحَصْدُ لِلَّهِ

جس کا کوئی شریک نہیں اور واسطے اسی کے ہے راج اور سب تعریف واسطے اللہ کے

وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ يَا اللَّهُ يَا

ہے اور وہ اوپر ہر چیز کے قادر ہے اے اللہ اے

رَحْمَنٌ يَا رَحِيمُ يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ يَا

رحمن اے رحیم اے زندہ اے سب کے قائم رکھنے والے

ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ يَا نُورَ السَّمَوَاتِ

صاحب بزرگی اور عزت کے اے روشن کرنے والے آسمانوں کے

وَالْأَرْضِ يَا لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ عَلَيْكَ

اور زمین کے اے وہ ذات کہ کوئی لائق بندگی کے نہیں مگر تو میں نے تجھ ہی پر

تَوَكَّلْتُ وَأَنْتَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ

بھروسہ کیا اور تو رب ہے بڑے عرش کا

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي بِحُرْمَةِ هَذِهِ الْأَسَاءِ

اے اللہ بخش دے مجھے اُن ناموں کی عتت کے طفیل اور پھر

وَأَصْرِفْ عَنِّي الضَّرَّاءَ وَالْبَلَاءَ وَالرَّهْومَ

مجھ سے دکھ اور مصیبت اور فکر اور

وَالْغُومَ وَجَمِيعَ الْأَفَاتِ وَمِنْ أَوْلَادِي

غم اور سب آفتیں اور اولاد میری سے اور

وَالْآبِي وَأُمَّهَاتِي وَأَقْرِبَائِي وَعَشِيرَتِي

میرے باپ دادوں سے اور میری ماؤں اور سب رشتہ داروں اور کنبے سے

فَإِنَّ عَلَيْكَ فِي جَمِيعِ الْأُمُورِ اعْتِسَابِي

پس تحقیق تجھ ہی پہ ہے سب کاموں میں میرا بھروسہ

وَالصَّلَاةِ وَالسَّلَامِ عَلَى خَيْرِ خَلْقِهِ مُحَمَّدٍ

اور دُرُود اور سلام ہو اویس بہترین مخلوق اسکی کے جن کا نام پاک محمد ﷺ

وَالِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ بِرَحْمَتِكَ

ہے اور ان کی سب آل اور اصحاب ہمہ گیری رحمت سے اے سب رحمت کرنے

يَا رَحِمَ الرَّاحِمِينَ هُ

والوں سے بڑھ کر مہربان